

25 جولائی 2018

## الگوما یونیورسٹی کی شاخ سے، ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں ترقی کی رفتار میں مزید تیزی آنے گی

برامپٹن، آن – الگوما یونیورسٹی کی جانب سے ایک نئے اسکول آف بزنس اینڈ اکنامکس کے آج کے اعلان کے ساتھ برامپٹن ڈاؤن ٹاؤن میں ترقی کے سفر میں زبردست تیزی پیدا ہوئی ہے۔ یونیورسٹی کے برامپٹن کیمپس میں یہ توسیع شدہ پروگرام اس سال ماہ ستمبر میں داخلوں کے لیے کھلے گا۔ برامپٹن اور GTA میں طالبعلموں کے پاس اب بزنس یا فائنانس اینڈ اکنامکس میں دو نئی چار سالہ بیچلر ڈگریوں کا انتخاب موجود ہو گا، جو دونوں ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کے دل میں پیش کی جا رہی ہیں۔

یہ پرجوش خبر برامپٹن کی بنیاد میں نئی ترقیوں اور تبدیلی کے حوالے سے ہلچل میں اضافہ کر رہی ہے، کیونکہ یہ برامپٹن اور GTA سے تعلق رکھنے والے طلباء کے لیے خصوصی طور پر بعد از ثانوی تعلیم کے انتخابات کے متعلق ہے۔ ریٹرنس یونیورسٹی کے نئے کیمپس کے منصوبوں پر اچھی پیش رفت اور موسم خزاں میں شروع ہونے والے ڈاؤن ٹاؤن ری امیجنگ پراجیکٹ پر کام کے ساتھ، برامپٹن ڈاؤن ٹاؤن تعلیم، کام اور کھیلوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔

الگوما یونیورسٹی کے کاروباری پروگراموں میں اس نئے باب کے اضافے کی بنیاد انتہائی موزوں اخراجات کے ساتھ ایسی معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے یونیورسٹی کا وہ عزم ہے جو طلباء کو مقامی کاروباری کمیونٹی اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد فراہم کرنے کے علاوہ کیریئر میں بھی طویل مدتی کامیابی کے لیے تیار کرتی ہے۔

الگوما یونیورسٹی نے 2010 کے موسم خزاں میں 40 سے کچھ کم طلباء کے ساتھ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں بیچلر آف بزنس اینڈ منسٹریشن پاتھ وے پروگرام کی پیشکش شروع کی تھی۔ پروگرام کا ابتدائی ماڈل کالج کے ڈپلومہ کے حامل لوگوں پر مرکوز تھا، جو اپنے پیشہ وارانہ کیریئرز میں آگے بڑھنے کے لیے ایک انڈرگریجویٹ کاروباری ڈگری مکمل کرنا چاہتے تھے۔ ہر سال داخلوں کی تعداد 100 طلباء سے بڑھنے لگی اور یونیورسٹی کے توسیع کے منصوبے اگلے تین سال کے دوران ڈاؤن ٹاؤن میں 500 سے زائد طلباء کی توقع کر رہے ہیں۔

### فوری حقائق

- تقریباً 200 طلباء نے الگوما یونیورسٹی کے برامپٹن کیمپس میں اپنی ڈگری کے تقاضے پورے کر لیے ہیں۔
- الگوما یونیورسٹی کے برامپٹن کیمپس کے تقریباً 70 فیصد طلباء برامپٹن یا قریبی ملحقہ کمیونٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیگر طلباء کا تعلق GTHA کی دیگر کمیونٹیوں اور ساتھ ہی ساتھ چین، بھارت اور دیگر ممالک سے ہے۔
- [ریٹرنس یونیورسٹی کے نئے ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کیمپس](#) کو موجودہ طور پر 2022 کی خزاں میں کلاسوں کے لیے کھولنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جو سائبر سائنس اور کاروبار پر وسیع توجہ کے ساتھ انڈرگریجویٹ پروگراموں میں تجرباتی تعلیم کی پیشکش کریں گے۔
- سٹی ایک [کاروباری انکیوبیٹر](#) اور مشترکہ کام کی جگہ کے آغاز کے لیے ڈاؤن ٹاؤن میں ایک خالی جگہ کو تیار کر رہا ہے، جس میں ریٹرنس یونیورسٹی جدت پسندی اور انکیوبیشن کے حوالے سے اپنے وسیع تجربے سے حاصل کردہ بہترین طرز عمل شیئر کرے گی۔
- سٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیل انفراسٹرکچر کی تجدید اور خوبصورتی کے ایک پراجیکٹ، [ڈاؤن ٹاؤن ری امیجنگ](#) کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہے، جو تاریخی فور کارنرز (Four Corners) کے اردگرد جمالیاتی طور پر خوبصورت سڑکوں کے ساتھ ایک متنوع عوامی جگہ بنائے گا۔

### اقتباسات

"میں اس بارے میں جان کر پرجوش ہوں کہ الگوما یونیورسٹی ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں ایک نئے اسکول آف بزنس کا اضافہ کرنے کے لیے توسیع کر رہی ہے۔ یہ نئے پروگرام ہمارے شہر میں اعلیٰ معیاری تعلیم کی فراہمی کے ہمارے ہدف کو آگے بڑھاتے ہیں اور برامپٹن کے طالبعلموں اور کاروباروں کو آگے بڑھنے کے لیے مزید مواقع فراہم کرتے ہیں۔"

- برامپٹن میئر لنڈا جیفیری

"الگوما یونیورسٹی کو برامپٹن میں بعد از ثانوی تعلیم کو بڑھانے کے لیے اپنی طویل عرصے سے چلنے والی کوششوں میں بڑھوتری کے اگلے زبردست مرحلے کے طور پر اسکول آف بزنس اینڈ اکنامکس کا آغاز کرنے پر فخر ہے۔ نیا اسکول آف بزنس اینڈ اکنامکس اس بات کو یقینی بناتے ہوئے اپنے پروگراموں کے معیار کو بڑھانے کے ہمارے مسلسل عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے طلباء برامپٹن کی کاروباری کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ ہم ڈاؤن ٹاؤن کے مرکز کے لیے سٹی آف برامپٹن کے ویژن کے حوالے سے پرجوش ہیں اور کمیونٹی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو مل کر پورا کرنے کے لیے وزارت اور بعد از ثانوی تعلیم کے شعبے میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پُر امید ہیں۔"

- عاصمہ وزیرینا، پریزیڈنٹ اور وائس چانسلر، الگوما یونیورسٹی

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔